

Ab nah rozī kahīN, nah hai ruzgār
 Kījī'e sau jatan, haiN sab bekār
 Is se to sahl hai yahī byopār
 Ghul mačāyā karo pukār pukār
 Kābulī aur kačālū kī hai bahār
 Golgappe bane masāledār

اب نہ روزی کہیں نہ ہے رزگار
 کیجئیے سو جتن ہیں سب بے کار
 اس سے تو سہل ہے یہی بیوپار
 غل مچایا کرو پکار پکار
 کابلی اور کچالو کی ہے بہار
 گول گپے بنے مسالے دار

Jab ʐarāfat se kuch nah zor čalā
 Be tukā chāpne lage qisṣā
 Jiskā sar per kuch na koī mazā
 Is se bahtar thā gar yeh dete ʂadā
 Kābulī aur kačālū kī hai bahār
 Golgappe bane masāledār

جب ظرافت سے کچھ نہ زور چلا
 بے تکا چھاپنے لگ قصا
 جسکا سر پیر کچھ نہ کوئی مزا
 اس سے بہتر تھا گریہ دیتے صدا
 کابلی اور کچالو کی ہے بہار
 گول گپے بنے مسالے دار

Shā'iroN kī nah itnī hajv karo
 Dekho pačtā'oge bačā sun lo
 Kyā samā'ī hai kitne aḥmaq ho
 Jā ke kaptān ke kun'eN pah kaho
 Kābulī aur kačālū kī hai bahār
 Golgappe bane masāledār

شاعرون کی نہ اتنی ہجو کرو
 دیکھو پختاؤ گے بچا سن لو
 کیا سمائی ہے کتنے احمق ہو
 جا کے کپتان کے کنوئیں پہ کھو
 کابلی اور کچالو کی ہے بہار
 گول گپے بنے مسالے دار

Shā'iřī se bhalā tumheN kyā kām
 Lo nah mažmūn nigārī ka bhī nām

شاعری سے بھلا تمہیں کیا کام
 لو نہ مضمون نگاری کا بھی نام

نکلو پھیری کو شہر بھر میں تمام
کہتے اونچے سروں میں ہر ہر گام
کابلی اور کچالو کی ہے بھار
گول گپے بنے مسالے دار

Nikalo pherī ko shahr bhar meN tamām
Kahte ūnče suroN meN har har gām
Kābulī aur kačālū kī hai bahār
Golgappe bane masāledār

قابلیت نہ اپنی ہم کو جتناور
لالہ صاحب کہاں ہو پوش میں آؤ
فرکاگر ہے کہ چار پیسے کماؤ
جا کے آٹھوں کے میلے میں سناؤ
کابلی اور کچالو کی ہے بھار
گول گپے بنے مسالے دار

Qābiliyat nah apnī, ham ko jatā’o
Lālah śāhib kahāN ho hosh meN ā’o
Fikr agar hai kih čār paise kamā’o
Jā ke āṭhoN ke mele meN sunā’o
Kābulī aur kačālū kī hai bahār
Golgappe bane masāledār

Avadh Panč, January 27, 1880 (37)